



# EFU BETTER LIFE CHILD SAVINGS PLAN

THE MOST VALUABLE GIFT TO YOUR CHILD

# EFU Better Life Child Savings Plan

EFU Better Life Child Savings Plan is an investment-linked insurance product which provides a complete financial package for planning your children's education and marriage expenses, by helping you create an endowment fund for this purpose in an organized and disciplined manner, over a predetermined period. This plan will indeed serve as the best gift for your children.

## Plan Objective

It is an investment-linked insurance product. The premiums of the plan will be utilized to purchase units for the funds selected by the policy holder (insured persons), who will have the facility to select from the Unit Savings Funds based on his/her risk appetite and investment objectives at the inception of the policy.

## Important Details:

Eligible age	18-65 years
Minimum Plan Term	10 years
Maximum Plan Term	25 years
Maximum Age at Maturity	75 years
Minimum Premium	Rs. 15,000 per annum
Fund Acceleration Premium	Minimum: Rs. 15,000

\*Note: Please contact insurance representatives designated at UBL branches who will help you develop the most suitable plan for your needs

## Disclosure of Product

**This is a life insurance product which has two distinct elements i.e., Insurance Protection and Investment. The Investment Component is linked to the performance of underlying assets under unit linked fund(s).**

## Free Look Period:

**If you cancel your policy within free look period of 14 days from the date of the documents receipt, you are entitled for a full refund of premium less any expenses incurred by EFU Life in connection with our medical or clinical examinations.**

## Benefits:

### Continuation Benefit

On death of life assured prior to the maturity of plan, the plan ensures that your child's future remains secure by its Continuation Benefit. This is built into the plan and ensures that all future premiums are paid by EFU Life following the death of the life assured until the Plan's maturity date. This means that the funds you had originally planned for your child will still be available.

### Maturity Benefit

The policy holder (insured person) is entitled to the total cash value at the maturity of the plan.

## Built-in Benefits

### Waiver of Premium\*

In case the life assured is unable to follow any occupation due to the sickness or accident, the premium would be paid by EFU Life.

\*Can be de-selected.

# Optional Benefits:

## Income Benefit

This benefit ensures that a quarterly income is paid to the family in case of an unfortunate death of the policy holder (insured person) during the plan term.

## Fund Acceleration Premium:

If you have surplus cash available at any point of time during the plan term, it can be invested in the plan to enhance your cash value. These additional payments in the plan are called Fund Acceleration Premium payments. You can make these payments at any time while the policy is in force. The minimum FAP payment is Rs. 15,000, while the maximum is 10 times the annual basic plan premium.

100% of FAP payments are allocated to purchase units in the selected fund.

## Partial Surrender:

Without surrendering your policy, you can withdraw any amount from your cash value to meet a sudden need. Partial Surrender is allowed subject to residual value of Rs. 20,000.

## Complete Surrender:

You may surrender your plan after the 2nd year's premium is paid. At the time of surrender, you will be paid the full cash value of your fund. However, surrender in early policy years may result in lower cash value.

## Indexation:

This option gives you the security and peace of mind of knowing that the benefits provided by your plan will be automatically updated in line with inflation every year. Once you select this option, the premium will increase every year by 5% of the prior year's premium. Premium indexation is only available until age 55.

## Unit Allocation

The proportion of basic plan allocated to investment is as shown in table:

Policy Years	Unit Allocation %	Allocation Charges**
Year 1*	55%	45%
Year 2	80%	20%
Year 3	90%	10%
Year 4 - 10	100%	0%
Year 11 onwards	105%	0%

\*First year allocation is valid from 1st July 2022 to 30th June 2023.

**\*\*An allocation charges will be deducted from the Paid Premium every year as per the above table and the remainder will be allocated to the account value.**

## Opportunities for Growth

Every premium paid towards the plan will be invested in one of the internal investment funds of EFU Life. It is completely your decision to choose the internal fund based on your investment objectives.

You can select from the following unit linked funds mentioned below:

All available funds are categorized with their risk profiling as per the investment criteria.

Funds	
EFU Managed Growth Fund	EFU Guaranteed Growth Fund*
<b>Fund Categorization: Balanced</b>	<b>Fund Categorization: Money Market Fund</b>
<b>Risk Profile: Medium</b>	<b>Risk Profile: Low</b>
An investment fund with a balanced investment strategy. It aims to achieve reasonable capital growth and steady returns with investment in government securities, carefully selected blue chip equities, and other fixed income securities and cash	An investment fund providing steady returns with a guarantee that the bid price of the fund will never fall. It aims to achieve stable growth through investment in short term debt securities.
EFU Income Growth Fund	EFU Aggressive Fund
<b>Fund Categorization: Income Fund</b>	<b>Fund Categorization: Aggressive</b>
<b>Risk Profile: Low</b>	<b>Risk Profile: High</b>
Investment fund providing steady returns. It aims to achieve consistent capital growth with investment in government securities and high-quality corporate debt.	An investment fund with the aim of investing in equities providing a higher rate of return. It aims to maximize capital growth by using investments with an aggressive market outlook.

## Multiple Fund Option

Under this option you have a facility to select a mix of two unit linked funds of the plan. Total premium under your policy will be allowed to be distributed in funds in multiples of 10%. It means that the funds split can be of 90/10, 80/20, 70/30, 60/40 or 50/50.

**\*EFU Guaranteed Growth Fund to be selected by default.**

## Charges

Charges	Rate / PKR
Administration Charge	PKR 90 per month
Bid/Offer Spread	5% of the net regular premium
Investment Management Charge	0.125% of the fund value per month
Mortality Charge (Cost of Insurance)	An age-based mortality charge applies for the life insurance risk each year and is dependent on the sum at risk. No mortality charges applies in years where the cash value exceeds sum assured.
Fund Switching Fee	PKR 500
Surrender Processing Fee	PKR 500
Surrender Charge	100% for the first year
Allocation charges	As per the above Unit Allocation table

## Claim

In case of an unfortunate event, you may file your claim intimation through any UBL Branch walk in, visiting the EFU Head Office or by visiting any of the EFU branches in the country. For a swift speedy process you may also call us at our call center (021-111-338-111) or simply visit our website, fill in the intimation form and email it to us at [cod@efulife.com](mailto:cod@efulife.com). Thereafter, you will be contacted for next steps.

## Disclaimer

- This product is underwritten by EFU Life Assurance Ltd. It is not guaranteed or insured by UBL or its


affiliates and is not a UBL product. EFU Life Assurance Ltd will be responsible for settlements of claims to the insured customer(s) or beneficiary(ies).

- UBL is acting as a distributor/corporate insurance agent on behalf of EFU Life Assurance Ltd and is not and shall not be held responsible in any manner whatsoever to any person, including but not limited to the insured customer(s), beneficiary (ies) or any third party.
- The investment risk of the fund is borne by the policyholder (insured person) and actual maturity or surrender values may be lower or higher than the projected figures.
- The past performance of funds is not necessarily a guide to future performance. Any forecast made is not necessarily indicative of future or likely performance of the funds and neither EFU Life Assurance Ltd nor UBL will incur any liability for the same.
- A personalized illustration of benefits will be provided to you by our sales representative. Please refer to the notes in the illustration for detailed understanding of the various terms and conditions.
- This product brochure is valid from 1st July 2022 to 30th June 2023.
- Service charges and taxes will be applicable as per the Bank's "Schedule of Charges" and taxation laws as stipulated by the relevant authorities.
- This product brochure gives a general outline of the product features and benefits. A description of how the contract works is given in the policy provisions and conditions.
- For target asset mix of the underlying fund, please refer to company website i.e., <https://www.efulife.com/investor-relations/funds-prices/funds-performance-charts/>

# EFU LIFE ASSURANCE LTD.

EFU Life House, Plot No. 112, 8th East Street, Phase I, DHA, Karachi, Pakistan

Tel: (021) 111-338-111 Email: [csd@efulife.com](mailto:csd@efulife.com)



# ای ایف یو بیٹر لائف چائلڈ سیونگز پلان

آپ کے بچے کے لئے سب سے قیمتی تحفہ

# ای ایف یو بیٹر لائف چائلڈ سیونگز پلان

ای ایف یو لائف پیش کرتا ہے ای ایف یو بیٹر لائف چائلڈ سیونگز پلان جو بیمہ انویسٹمنٹ لنکڈ پروڈکٹ ہے اور ایک ایسا پلان جو منظم طریقے سے، پلان کی دی گئی مدت میں آپکے بچوں کی تعلیم یا شادی کے اخراجات کو پورا کرنے کیلئے، ایک مکمل چیک ترتیب دیتا ہے۔ بلاشبہ، یہ پلان آپکی اولاد کیلئے ایک بہترین تحفہ ہے۔

## پلان کے مقاصد

یہ بیمہ انویسٹمنٹ لنکڈ ہے۔ پلان میں دئے گئے پرمیم بیمہ دار (پالیسی ہولڈر) کے منتخب شدہ فنڈ کے یونٹس کی خریداری میں استعمال ہوتے ہیں۔ پلان کے آغاز کی وقت، بیمہ دار (پالیسی ہولڈر) اپنی سرمایہ کاری کے اہداف خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے یونٹس سیونگز فنڈز کا انتخاب کرتا ہے۔

## اہم تفصیلات

عمر کی اہلیت	18 سے 65 سال
کم از کم پلان کی مدت	10 سال
زیادہ سے زیادہ پلان کی مدت	25 سال
مچھوڑی پر عمر کی حد	75 سال
کم از کم پرمیم	15,000 روپے سالانہ
اضافی اختیاری پرمیم	کم از کم 15,000 روپے

نوٹ: برائے مہربانی یو ایچ ایس براچر میں انشورنس کے ہمزدما کنندے سے رابطہ کریں جو آپ کی ضرورت کے مطابق مناسب پلان بنانے میں آپ کی مدد کریگا۔

## پروڈکٹ کا اظہار

اس زندگی کے بیمہ کی دو نمایاں خصوصیات یہ ہیں: انشورنس کا تحفظ اور سرمایہ کاری۔ سرمایہ کاری منسلک ہے یونٹ لنکڈ فنڈ (فنڈز) میں موجود اثاثہ جات کی کارکردگی سے۔

## غور و فکر کا دورانیہ (فری لک پیریڈ)

اگر آپ لکھی ہوئی پالیسی دستاویزات کی وصولی کے 14 دن کے اندر اپنی رکنیت منسوخ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ ای ایف یو لائف کے طبی/کلینیکل معائنہ جات کے سلسلے میں اٹھنے والے اخراجات منہا کر کے، پرمیم کی مکمل ادائیگی کی واپسی کے اہل ہونگے۔

## فوائد (بینیفٹ)

### کنٹینڈیشن بینیفٹ

اس پلان کی اختتامی مدت سے قبل اگر بیمہ دار (پالیسی ہولڈر) کی وفات ہو جاتی ہے تو اس بینیفٹ کے سبب آپکے بچوں کا مستقبل محفوظ رہے گا۔ یہ بینیفٹ اس پلان میں خود کار طور پر (بلٹ ان) موجود ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ بیمہ دار (پالیسی ہولڈر) کی وفات سے لیکر اس پلان کی تکمیلی مدت تک، تمام پرمیمز ای ایف یو لائف ادا کریگا۔ اسکے معنی یہ ہے کہ وہ رقم جسکے لئے آپ نے اصل منصوبہ بندی کی تھی، آپکی اولاد کیلئے پھر بھی دستیاب ہونگے۔

### مچھوڑی بینیفٹ

پلان کی مچھوڑی پر بیمہ دار (پالیسی ہولڈر) کو تمام نقد مالیت (کیش ویلیو) ادا کی جائے گی۔



## بلیٹ ان فوائڈ (خود کار بینیفٹ)

ویور آف پریمیم: اگر بیمہ دار (پالیسی ہولڈر) کسی بیماری یا حادثے کے باعث کوئی پیشہ اختیار کرنے سے قاصر ہو تو پریمیم کی رقم ای ایف یولائف ادا کرے گی۔  
منسوخ کیا جاسکتا ہے۔

## ضمنی فوائڈ (اختیاری بینیفٹ)

انکم بینیفٹ: یہ اس امر کو یقینی بناتا ہے کہ پلان کی مدت کے دوران پالیسی ہولڈر (بیمہ دار) کی ناگہانی وفات کی صورت میں سہ ماہی آمدنی اسکے خاندان کو قابل ادا ہوگی۔

## اضافی اختیاری پریمیم (فنڈ ایکسٹریشن پریمیم)

اگر آپ کے پاس پلان کی مدت کے دوران کسی بھی وقت اضافی نقد رقم موجود ہو تو اپنی نقد اقدار (کیش ویلیو) کو بڑھانے کے لئے آپ اس کو پلان میں سرمایہ کاری کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان اضافی ادائیگیوں کو فنڈ ایکسٹریشن پریمیم کہتے ہیں۔ آپ یہ ادائیگیاں پالیسی کے نافذ العمل ہوتے ہوئے کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں۔ کم از کم فنڈ ایکسٹریشن پریمیم (ایف اے سی) 15,000 روپے فی ادائیگی ہے۔

فنڈ ایکسٹریشن پریمیم ادائیگیوں کا 100 فیصد منتخب شدہ فنڈ میں یونٹس کی خریداری کے لئے مختص کیا جاتا ہے۔

## جزوی دستبرداری

اپنی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے پالیسی ہولڈر (بیمہ دار) کسے بھی وقت، اپنی پالیسی سے دستبردار ہوئے بغیر رقم نکلا سکتا ہے۔ جزوی دستبرداری کم سے کم فنڈ میں 20,000 روپے چھوڑ کر حاصل کی جاسکتی ہے۔

## مکمل دستبرداری

دو سال کے پریمیم کی ادائیگی کے بعد آپ اپنے پلان سے مکمل طور پر دستبردار ہو سکتے ہیں۔ مکمل دستبرداری کی صورت میں آپ کو آپ کے فنڈ کی مکمل کیش ویلیو ادا کی جائیگی۔ البتہ شروع کے سالوں میں دستبردار ہونے سے نقد مالیت (کیش ویلیو) کم ہوگی۔

## افراط زر (انڈیکسیشن)

یہ انتخاب آپ کو ڈیٹا سکون اور تحفظ مہیا کرتا ہے کہ پلان میں دئے گئے فوائڈ سالانہ افراط زر (انڈیکسیشن) کے مطابق خود بہ خود بڑھ جائیں گے۔ اس اختیار کے تحت آپ کا پریمیم پچھلے سال کے پریمیم سے 5 فیصد بڑھے گا۔ افراط زر کے تحت پریمیم میں اضافہ صرف 55 سال کی عمر تک ہو سکتا ہے۔

## یونٹ کی ایلوکیشن

بنیادی پلان میں مختص کئے جانے والے یونٹس کا تناسب جو سرمایہ کاری کے لئے مقرر کیا گیا ہے، درج ذیل ٹیبل میں موجود ہے:

پالیسی سال	ایلوکیشن	ایلوکیشن کی فیس **
1*	55 فیصد	45 فیصد
2	80 فیصد	20 فیصد
3	90 فیصد	10 فیصد
4-10	100 فیصد	0 فیصد
11 اور اس سے زائد	105 فیصد	-

\* پہلے سال کی تخصیص پہلی جولائی 2022 سے 30 جون 2033 تک بشنا بط ہے

\*\* اپر درج ٹیبل کے مطابق ہر سال ادا کئے گئے پریمیئم میں سے تخصیص کی فیس منہاء کی جائے گی اور بقایا رقم اکاؤنٹ ویلیو کو مختص کی جائے گی

## سرمائے کی نشوونما کے لئے مواقع

اس پلان میں ادا کیا جانے والا ہر پریمیئم ای ایف یولائف کے منتخب کردہ فنڈز میں سرمایہ کاری کیلئے لگایا جائیگا۔ یہ مکمل طور پر آپ کا فیصلہ ہوگا کہ اپنے سرمایہ کاری کے مقاصد کی بنیاد پر فنڈ کا انتخاب کریں۔

آپ درج ذیل یونٹ سے منسلک فنڈز میں سے انتخاب کر سکتے ہیں:

تمام فنڈز کی رسک پروفائیلنگ ان میں کی جانے والی سرمایہ کاری کے تحت کی گئی ہے

فنڈز	
ای ایف یو گارنٹیڈ گروتھ فنڈ*	ای ایف یو مینجڈ گروتھ فنڈ
فنڈ کی قسم: متبی مارکٹ فنڈ	فنڈ کی قسم: بیلنڈڈ
رسک پروفائل: کم	رسک پروفائل: درمیانی
مستحکم آمدنی فراہم کرنے والا سرمایہ کاری فنڈ جس میں یہ ضمانت دی جاتی ہے کہ فنڈ کی بولی قیمت (بڈ پرائس) کبھی نیچے نہیں آئے گی۔ اس کا مقصد قلیل الیچا قدر ضلنے والے مالیاتی اداروں میں سرمایہ کاری کے ذریعے سرمایہ کی مستحکم نشوونما ہے۔	متوازن سرمایہ کاری کی حکمت عملی کے ساتھ سرمایہ کاری فنڈ ہے۔ اس کا ہدف حکومتی مالیاتی اداروں میں مختلط طریقے سے منتخب کردہ بلوچپ ایکویٹی میں اور مختلف قسٹڈ انکم سیکیورٹیز اور نقد میں سرمایہ کاری کے ذریعے سرمائے میں مناسب فروغ اور مستحکم آمدنی کا حصول ہے۔
ای ایف یو ایگریسو فنڈ	ای ایف یو ایکٹو فنڈ
فنڈ کی قسم: ایکٹو	فنڈ کی قسم: ایکٹو
رسک پروفائل: زیادہ	رسک پروفائل: کم
زیادہ آمدنی فراہم کرنے والے مالیاتی اداروں میں سرمایہ کاری کے مقصد سے وضع کیا جانے والی ایک سرمایہ کاری فنڈ۔ اس کا مقصد مارکیٹ کی متوقع تیزی کو مد نظر رکھتے ہوئے سرمائے کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا ہے۔	ایک سرمایہ کاری فنڈ جس کا مقصد سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری کر کے مستحکم بڑھوتری حاصل کرنا ہے۔ اس کا ہدف حکومتی مالیاتے اداروں اور قدر ضدینے والی اعلیٰ معیاری مالیاتی اداروں میں سرمایہ کاری کے ذریعے سرمایہ کی مستحکم نشوونما ہے۔

فنڈز کی کل شراکت داری کو 10/20، 30، 40، 50 یا 60 کے تناسب سے تشکیل دے سکتے ہیں۔  
ای ایف یو گارنٹیڈ گروتھ فنڈ خود کار طور پر منتخب کیا جائے گا

## اخراجات (چارجرز)

ریٹ/پاکستان روپے میں	چارجرز
90 روپے ماہانہ	انتظامی اخراجات (ایڈمنسٹریشن چارج)
مختص شدہ بنیادی اور اضافی فنڈ پر بنیمم 5% فیصد	پڈ/آفر (بوی/پیشکش) سپرڈ
فنڈ قدر کا 0.125 فیصد ماہانہ	سرماہ کاری اخراجات (انویسٹمنٹ مینجمنٹ چارج)
ہر سال عمر پر مشتمل بیمہ حیات کے خطرے کے امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہموورٹیلٹی چارج لاگو ہوتا ہے جو سم ایٹ رسک کے تحت حاصل کیا جاتا ہے۔ البتہ جب کیش ویلیو سم کو رس سے بڑھ جائے تو ہموورٹیلٹی کی مد میں کوئی رقم منہا نہیں کی جائے گی	ہموورٹیلٹی چارج (بیمہ کی مالیت)
500 روپے	فنڈ تبدیل کرنے کی فیس
500 روپے	دستبرداری عمل درآمد فیس
100 فیصد پہلے سال کے لئے	دستبرداری اخراجات
اوپر دی گئی پونٹ کی تخصیص کی ٹیبل	تخصیص کی فیس

کلیم

کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ اپنے دعویٰ (کلیم) کی اطلاع یو بی ایل کی کسی بھی شاخ میں جاکر، ای ایف یو ہیڈ آفس آکریا ملک بھر میں ای ایف یو کی کسی بھی شاخ میں جاکر دے سکتے ہیں۔ فوری عمل درآمد کیلئے آپ ہمارے کال سینٹر (111-338-111) پر 111-EFU-111 (021) پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ پر موجود اطلاع فارم بھریئے اور ہمیں [cod@efulife.com](mailto:cod@efulife.com) پر ای میل کر دیجئے۔ بعد ازاں، اگلے مراحل کے بارے میں آگاہ کرنے کیلئے آپ سے رابطہ کیا جائیگا۔

## انتباہ

- یہ پلان ای ایف یو لائف اشورنس لمیٹڈ کا پیش کردہ پروڈکٹ ہے۔ یہ پلان یو بی ایل یا اس سے ملحق کسی ادارے سے ضمانت کردہ یا بیمہ شدہ نہیں ہے اور نہ ہی یو بی ایل کی پروڈکٹ ہے۔ ای ایف یو لائف اشورنس لمیٹڈ بیمہ شدہ صارف/صارفین اور مستفید/مستفیدان (بینفشری/بینفشریز) کے کلیمر (دعووں) کا ذمہ دار ہوگی۔
- یو بی ایل ای ایف یو لائف اشورنس لمیٹڈ کی طرف سے صرف ایک کارپوریٹ انشورنس ایجنٹ/تقسیم کار کی حیثیت کام کر رہا ہے اور نہ ہی بیمہ شدہ صارف/صارفین اور مستفید/مستفیدان (بینفشری/بینفشریز) یا کسی بھی تیسرے فریق کی طرف سے ذمہ دار ہوگا۔

- سرمایہ کاری میں نفع اور نقصان کی ذمہ داری بیمہ دار (پالیسی ہولڈر) کی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ پالیسی کی میچورٹی یا دستبرداری نقد قدر (کیش ویلیو) پیشگی اندازے سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ منتخب شدہ فنڈ میں کی گئی تمام سرمایہ کاریاں مارکیٹ میں نقصان کی صورت حال پر منحصر کرتی ہیں۔ سرمایہ کاری کی کارکردگی کی صورت میں نقصان بیمہ دار (پالیسی ہولڈر) کی ذمہ داری ہوگا۔
- ضروری نہیں کہ فنڈ کی ماضی کی کارکردگی مستقبل کی کارکردگی کے لئے رہنمائی کا باعث ہو۔ کسی قسم کا پیشگی اندازہ ضروری نہیں کہ مستقبل کی ترجمانی کرے یا فنڈ کی ممکنہ کارکردگی کو بیان کرے اور فنڈ کی اچھی یا بری کارکردگی کی ذمہ داری ای ایف یو لائف اور یو بی ایل بینک پر عائد نہیں ہوتی۔
- ہمارا سیلز کا نمائندہ آپ کو فوائد کی شخصی مثال پیش کرے گا۔ برائے مہربانی دیگر شرائط و ضوابط کو تفصیلاً سمجھنے کیلئے مثال میں بیان کی گئی باتوں کو بغور پڑھیں۔
- یہ پروڈکٹ کتابچہ صرف 1 جولائی 2022 سے 30 جون 2023 تک کے لئے قابل عمل ہے۔
- سروس اخراجات اور دیگر ٹیکسیز بینک کے شیڈول آف چارجز اور متعلقہ حکم سے مشروط ٹیکس قوانین کے مطابق ہونگے۔
- یہ بروشر پروڈکٹ کی خصوصیات اور فوائد کا صرف ایک عمومی جائزہ پیش کرتا ہے۔ یہ معاہدہ کس طرح کام کرتا ہے اسے پالیسی کے قواعد و شرائط میں بیان کیا گیا ہے۔
- فنڈ کی معلومات جاننے کیلئے نیچے دی گئی کمپنی ویب سائٹ کو ملاحظہ فرمائیں۔

(<https://www.efulife.com/investor-relations/funds-prices/funds-performance-charts/>)

ای ایف یولائف ایشورنس لمیٹڈ

ای ایف یو ہاؤس، پلاٹ نمبر 112، 8th، اسٹریٹ، فیرون، ڈی ایچ اے، کراچی، پاکستان۔

فون: 021 111 338 111 ای میل: csd@efulife.com